



## سوال

(648) متفرق سوالات

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

1- نماز عیدین کب سے شروع ہوئیں اور کیوں؟ پہلے تھیں یا نہیں؟ اگر نہ تھیں تو کیوں؟ پہلے بھی تو اسلام تھا؟

2- قربانی کب سے شروع ہوئی اور کیسے؟ پہلے تھی یا نہیں۔ اگر نہ تھی تو کیوں؟ پہلے بھی اسلام تھا؟

3- گوشت خنزیر کیوں حرام ہوا؟

4- جب آدمی دیدہ دانستہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے تو کیوں بخشا جاوے گا؟

5- جب مادہ نہ تھا تو خدا کس چیز کا خدا تھا۔ جب فرشتے بھی نہ تھے۔ تو خدا کس کا خدا تھا؟ یہ ایک میرے دوست آریہ صاحب کا سوال ہے۔ اور امید ہے۔ کہ پوری توجہ فرمائیں گے۔

(نیاز مند بالو عطا محمد ریلوے اسٹیشن، ٹالہ خریدار الحدیث نمبر 35)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

1- عیدین کی نماز فرض نہیں کہ پہلے زمانہ میں بھی اس کی تلاش کی جائے۔ بلکہ ایک دینی رسم ہے۔ اور رسومات کی تبدیلی ہر نبی کے زمانہ میں بقرین مصلحت ہوتی رہی ہے۔

2- قربانی پہلے بھی تھی۔ لَکَلِّ اُمَّیَّةٍ یُحَلِّئَانَا مَنَّا۔ بائیل میں آج تک قربانیوں کے حکم ملتے ہیں۔ بلکہ ہندوں کی کتابوں میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ منوحی فرماتے ہیں۔ یجیہ (قربانی) کے واسطے اور نوکروں کے کھانے کے واسطے لچھے ہرن اور پکسی (پرنڈ) مارنے چاہیں (سندھیتے ہیں۔) اگست رشی نے لگے زمانے میں ایسا کیا۔ (سمرتی باب 5۔ فقرہ 22) اور بھی بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں۔

3- خنزیر کا گوشت اخلاق کے لئے مضر ہے۔ اس حرمت بائیل اور منوسمرتی میں بھی ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب اخبار باب 11 فقرہ 7) (منوسمرتی باب 5 فقرہ 190)

4- بخشش تو توبہ کے وقت جو خلوص ہوتا ہے۔ اس پر مبنی ہے۔ اگر وہ ہے تو بخشش بھی ہے۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ خلوص اس پر مبنی ہے۔ کہ توبہ کرنے کے وقت گناہ کا خدا کو اپنا حقیقی مالک سمجھ کر اس کے آگے گناہ کا اقرار کرے۔ اور اس کو بخش مانگے۔ تو خدا بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے۔ وَهُوَ الَّذِیْ یُغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ عَنِ عِبَادِهِ۔ اس آیت

